

Psa

Chapter 3

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	מִזְמוֹר	לְדָוִד	בְּבָרְחוֹ	וּמִנְּוֵי	אֲבִשָׁלוֹם	בְּנֹו:	יְהוָה	מָה-	רָבִו
	زبور	داؤد-کا	-بھاگتے-ہوئے	-سامنے-سے	ابشالوم	اپنے-بیٹے-کے	اے-یہوواہ	کیا	بڑھ-گئے-ہیں
	H4210	H1732	H1272	H6440	H0053		H3068	H4100	H7231
	میرے-دشمن	بہت-سے	اٹھنے-والے	میرے-خلاف	عَلِي:				

ہیں! ہوئے کھڑے اٹھ خلاف میرے لوگ کتنے ہیں، زیادہ کتنے دشمن میرے رب، اے پڑا۔ بھاگنا سے سلوم ابی بیٹے اپنے اُسے جب وقت اُس زبور۔ کا داؤد

2	רָבִים	אֲמָרִים	לְנַפְשִׁי	אֵין	יְשׁוּעָתָה	לֹא	בְּאֱלֹהִים	סָלָה:
	بہت-سے	کہنے-والے	میری-جان-سے	نہیں	نجات	اُس-کے-لیے	خدا-میں	سلاہ
	H0559	H5315	H0369	H3444			H0430	H5542

(سلاہ) گا۔ دے نہیں چھٹکارا اسے اللہ ہیں، رہے کہ بہتیرے میں بارے میرے

3	וְאֵתָה	יְהוָה	מִנֵּן	בְּעָרִי	כְּבֹדִי	וּמְרִים	רֵאשִׁי:
	لیکن-ٹو	اے-یہوواہ	ڈھال	میرے-گرد	میرا-جلال	اور-اٹھانے-والا	میرے-سر-کو
	H3068	H4043	H1157	H3519			

ہے۔ رکھتا اٹھانے کو سر میرے جو بے عزت میری ٹو ہے۔ ڈھال والی کرنے حفاظت میری طرف چاروں رب، اے ٹو لیکن

4	קוֹלִי	אֶל-	יְהוָה	אֶקְרָא	וַיַּעֲנֵנִי	מִהָר	קִדְשׁוֹ	סָלָה:
	میری-آواز-سے	-کی-طرف	یہوواہ	میں-پکارتا-ہوں	اور-وہ-جواب-دیتا-ہے-مجھے	-پہاڑ-سے	اپنی-قدوسیت-کے	سلاہ
	H0413	H3068	H7121		H2022	H6944	H5542	

(سلاہ) ہے۔ سنتا میری سے پہاڑ مقدس اپنے وہ اور ہوں، پکارتا کو رب سے آواز بلند میں

5	אֲנִי	שָׁכַבְתִּי	וְאִישָׁנָה	הִקִּיצוּתִי	כִּי	יְהוָה	יְסַמְכֵנִי:
	میں	لیٹ-گیا	اور-سو-گیا	میں-جاگا	کیونکہ	یہوواہ	مجھے-سنہالتا-ہے
	H0589	H7901	H3462	H6974	H3068		H5564

ہے۔ رکھتا سنہالے مجھے خود رب کیونکہ اٹھا، جاگ پھر گیا، سو کر لیٹ سے آرام میں

6	לֹא-	אֵירָא	מִרַבְּבוֹת	עַם	אֲשֶׁר	סָבִיב	נִשְׁתּוֹ	עָלַי:
	نہیں	میں-ڈروں-گا	-ہزاروں-سے	لوگوں-کے	جو	چاروں-طرف	تیار-ہیں	میرے-خلاف
	H3808	H3372	H7233		H5439	H7896		

ہیں۔ رکھتے گھیرے مجھے جو ڈرتا نہیں میں سے ہزاروں اُن

7	קוֹמָה	וְהוָה	הוֹשִׁיעֵנִי	אֱלֹהֵי	כִּי-	הִכִּיתָ	אֶת-	כָּל-	אֹיְבֵי	לְחֵי
	اٹھ	اے-یہوواہ	بچا-مجھے	اے-میرے-خدا	کیونکہ	ٹو-نے-مارا	کو	سب	میرے-دشمنوں	جہڑے-پر
	H3068	H3467	H0430		H5221	H0853	H3605	H0341	H3895	

שָׁנִי	רְשָׁעִים	שִׁבְרָתִ:
دانت	شریروں-کے	ٹو-نے-ٹوڑ-دیے
H8127	H7563	H7665

ہے۔ دیا توڑ کو دانتوں کے بے دینوں نے ٹو مارا، تھیڑ پر منہ کے دشمنوں تمام میرے نے ٹو کیونکہ کرا! رہا مجھے خدا، میرے اے اٹھا! رب، اے

8 ליהוה - יהוואה-כי
הישועה - נجات
על- -
עמך - תیری-أمت
ברכתך - تیری-برکت
סלה: -
H3068 H3444
H1293 H5542

| (سِلاہ آئے۔ پر قوم تیری برکت تیری ہے۔ نجات پاس کے رب